



میں گدھی پر سوار ہو کر آیا، ان دنوں میں بلوغت کے قریب تھا رسول اللہ ﷺ منیٰ میں نماز پڑھا رہا تھا اور آپ ﷺ کے سامنے کوئی دیوار نہیں تھی

عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں گدھی پر سوار ہو کر آیا، ان دنوں میں بلوغت کے قریب تھا رسول اللہ ﷺ منیٰ میں نماز پڑھا رہا تھا اور آپ ﷺ کے سامنے کوئی دیوار نہیں تھی میں صف کے سامنے سے گزرا اور پھر اتر کر گدھی کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا اور خود صف میں شامل ہو گیا کسی نے مجھ سے اس پر نہیں ٹوکا
[صحیح] [متفق علیہ]

عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ جب وہ حج الوداع کے موقع پر منیٰ میں نبی ﷺ کے ساتھ تھے تو وہ ایک گدھی پر سوار ہو کر آئے اور صف کے سامنے سے گزرے نبی ﷺ اس وقت اپنے صحابہ کو نماز پڑھا رہا تھا اور آپ ﷺ کے سامنے کوئی دیوار نہیں تھی ابن عباس رضی اللہ عنہما بتاتے ہیں کہ وہ اس وقت بلوغت کے قریب چھوڑ دیا اور خود صف میں شامل ہو گئے ابن عباس رضی اللہ عنہما بتاتے ہیں کہ وہ اس وقت بلوغت کے قریب تھے یعنی وہ ایسی عمر میں تھے کہ اگر وہ کوئی ایسی بات کہ مرتکب ہوئے ہوتے جس سے نمازیوں کی نماز خراب ہو جاتی تو ان پر نکیر کی جاتی لیکن اس کے باوجود کسی نے بھی نکیر نہیں کی، نہ نبی ﷺ اور نہ ہی صحابہ میں سے کسی نے

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/3090>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

